

Surah 015: Al-hijr - سورة الحجر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[15:0] Bismi **ALLAH**, Alrahman, Alrahim.

الرَّتِّكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ ۝١

[15:1] A.L.R.* Wa'annan (harufa) hujjoji ne ga wannan littafi; Alqurani mai girma.

**15:1 & *15:9 Mafari na ikon Allah da cikakken kariya Alqurani na mara aibi ya tabbata da asirin mu'ujizar riyadiyan Alqurani (Shafi ta 1). Manzon Allah na Wa'adi shi aka qaddara domin ya bayyana wanna babban mu'ujiza. Lafazin kalman "Dhikr" shi ne ridiyan Alqurani a ayoyi masu yawa [15:6, 21:2, 26:5, 38:1, 38:8, 74:31]. Nauyin abjadin "Rashad Khalifa" (1230)+15+9=1254, 19x66.*

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۝٢

[15:2] Babu shakka, wadanda suka kafirta za su yi fatan da sun musulunta.

ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝٣

[15:3] Ka bar su, su ci kuma su ji dadi, kuma guri ta shagaltad da su, da sannu za su sani.

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۝٤

[15:4] Ba mu shafe wata alqaryan mutane, sai daidai da qayyadedden lokacin da aka kudira.

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ۝٥

[15:5] Ba qara wa kowace al'umma ajalinta ko jinkirtawa.

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾

[15:6] Sun ce, "Ya kai wanda aka saukar wa da wannan tunatarwa, kai mahaukaci ne."

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧﴾

[15:7] "Domin me ba za ka zo mana da mala'iku ba, idan kana da gaskiya?"

مَا نُنزِلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ﴿٨﴾

[15:8] Ba mu aikawa da mala'iku sai domin wasu ayyuka na takamaimai. In ba haka ba, ba wanda za jinkirta masa.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

*Manzon Allah Na Wa'adi**

[15:9] Babu shakka, mun saukar da tunatarwa, kuma, babu shakka, zamu kiyaye shi.

**15:1 & *15:9 Mafari na ikon Allah da cikakken kariya Alqurani na mara aibi ya tabbata da asirin mu'ujizar riyadiyan Alqurani (Shafi ta 1). Manzon Allah na Wa'adi shi aka qaddara domin ya bayyana wanna babban mu'ujiza. Lafazin kalman "Dhikr" shi ne ridiyan Alqurani a ayoyi masu yawa [15:6, 21:2, 26:5, 38:1, 38:8, 74:31]. Nauyin abjadin "Rashad Khalifa" (1230)+15+9=1254, 19x66.*

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعَابِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾

[15:10] Mun aika da (manzanni) gabaninka zuwa ga qungiyoyin farko.

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١١﴾

[15:11] A kowace lokaci manzo ya je zuwa gare su, sai wulakanta shi.

كَذَلِكَ نَسُكُّهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾

[15:12] Ta haka ne muke sarrafa zukatar masu laifi.

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

[15:13] Saboda haka, ba za su iya su yi imani da shi ba. Wannan shi ya kasance sunnah tun zamanin mutanen da suka gabata a baya.

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾

[15:14] Wa lau da mun bude masu wata qofa zuwa sama, ta inda suke hawa;

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

[15:15] da sun ce, "An yaudari idanunmu ne. An yi mana sihiri."

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾

[15:16] Mun sanya yawan taurari a sama, kuma muka qawata ta ga kallo.

وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿١٧﴾

[15:17] Kumar muka kiyaye ta daga kowane shaidan korerre.

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ ۗ وَشِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

[15:18] Idan wani a cikinsu ya labe yana neman ya saurara, sai babban harsashi mai linzami ya koro shi.

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾

[15:19] Amma bisa ga qasa, mun gina ta, kuma muka sanya mata cakosoban qasa (tsaunika), kuma muka tsiro a kanta daidaitawan kome da kome.

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقِينَ ﴿٢٠﴾

[15:20] Muka sanya maku a cikinta abubuwan rayuwa,* kuma ku da halittan da baku ciyarwa.

**15:20 Idan muka aika da 'yan saman jannati a sararin samaniya, mukan tanadad masu daidai adadin aunin yawan aminci, ruwa, da ruwa. Allah ya halicci jirgin sararin samaniya, watau duniya, dauke da nunkin biliyan 'yan saman jannati wanda suke yin aiki su kuma haifu; Ya tanadad masu da wani hanya na bada iskan shaqa, da ruwan sha na kan shi, kuma da yawan wasu abubuwan ci da sha dabam dabam.*

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُ إِلَّا بِالْقَدْرِ مَعْلُومٍ ﴿٢١﴾

[15:21] Kumar babu wani abu wanda ba mu da shi mara iyaka. Amma muna saukarwa da shi a kan daidan auni.

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَّاحٍ لَوْقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾

[15:22] Kuma muka aika da iskoki a matsayin bada hure, sa'annan muka saukar da ruwan sama domin mu shayar da ku. Da ba za ku iya gandan ta ba.

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾

[15:23] Mu ne Muke rayarwa, kuma Muke kashewa, kuma Mu ne magada.

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾

[15:24] Kuma Mun san wadanda daga cikinku suke cin gaba, da wadanda suke yin baya.

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

[15:25] Lalle ne, Ubangijinka zai tara su. Shi ne Mafi hikimah, Masani.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾

Jinsin Mutane

[15:26] Mun halicci mutum daga salsalin laka, awa yumbun maginin tukwane.

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾

[15:27] Amma bisa ga aljannu, mun halicce su, gabanin haka, daga harshen wuta.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ

مَسْنُونٍ ﴿٢٨﴾

[15:28] A lokacin da Ubangijinka Ya ce wa mala'iku, "Ga shi zan halicci mutum daga salsalin laka, kamar yumbun maginin tukwane.

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾

[15:29] "Idan Na kammala shi, kuma Na hura mas daga ruhiNa, to, sai ku fadi ga sujudah a gaban shi."

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾

[15:30] Sai mala'iku suka yi sujudah; dukansu gaba day,

إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾

[15:31] ban da Iblis. Ya qi ya kasance tare da masu yin sujudah.

قَالَ يٰٓإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّٰجِدِينَ ﴿٣٢﴾

[15:32] Ya ce, "Ya Iblis, me ya sa baka kasance tare da masu sujudah ba?"

قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ

مَسْنُونٍ ﴿٣٣﴾

[15:33] Ya ce, "Ban kasance in yi sujudah ba ga mutum, wanda Ka halitta daga salsalin laka, awa yumbun maginin tukwane."

قَالَ فَأَخْرَجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾

[15:34] Ya ce, "To, ka fita; an kore ka.

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾

[15:35] "Kuma lalle, akwai la'ana a kanka har Ranar sakamako."

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾

[15:36] Ya ce, "Ubangijina, Ka jinkirta mini har zuwa ranar da za tayar da su."

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾

[15:37] Ya ce, "An jinkirta maka."

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾

[15:38] "Har zuwa qayyadedden rana da lokaci."

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ

أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾

[15:39] Ya ce, "Ubangijina, tun da Ka nufa cewa in tabe, to, lalle zan ja hankulansu a qasa; zan batar da su duka."

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

[15:40] Ban da bayinKa daga cikinsu wanda suka duqufa zuwa gare Ka."

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾

[15:41] Ya ce, "Wannan tafarki ne a gare Ni, madaidaici."

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ

الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾

[15:42] Lalle ne, baka da iko a kan bayinNa. Ikonka kawai a kan batattun da suka bi ka ne.

وَأِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾

[15:43] "Kumar Jahannamah tana jiransu duka.

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

[15:44] Tana da qofofi bakwai. Kowace qofa za ta sami takamaiman kasonsus."

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾

[15:45] Amma bisa ga salihai, za su mure Aljannah mai idanun ruwa.

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴿٤٦﴾

[15:46] Ku shige ta, a kan aminci da kiyayewa.

﴿٤٧﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍّٰ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرِّ مَّقَابِلِينَ

[15:47] Kumar za mu cire dukan kishi daga zukatansu. Kamar iyali daya, za su kasance suna fuskantar juna daga kayan gidajensu.

﴿٤٨﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ

[15:48] Wata gajiya ba za ta shafe su a cikinta ba; kuma ba za fitar da su ba daga cikinta.

﴿٤٩﴾ ﴿٤٩﴾ نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

[15:49] Ka sanar da bayina cewa Ni ne Mai gafara, Mafi jin qai.

﴿٥٠﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ

[15:50] Da kuma cewa azabaTa ita ce azaba mafi zafi.

﴿٥١﴾ وَنَبِّئُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ

Mala'iku Sun Ziyarci Ibrahim

[15:51] Kkuma ka basu labarin baqin Ibrahim.

﴿٥٢﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ

[15:52] Sa'ad da suka shiga wurinsa, suka ce, "Salama." Ya ce, Muna jin tsoro game da ku."

﴿٥٣﴾ قَالُوا لَا نَوْجَلُ إِنَّا نَبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ

[15:53] Suka ce, "Kada ku ji tsoro. Muna da bishara maka: a kan yaro mai ilmi."

قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ يُبَشِّرُونِ ۝٥٤

[15:54] Ya ce, "Ta yaya za ku ba ni irin wannan bishara, alhali ga shi na tsufa sosai? Har yanzu kuna bani wannan bishara?"

قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَنِيطِينَ ۝٥٥

[15:55] Suka ce, "Bisharan da muke baka gaskiya ne; saboda haka, kada ka fid da tsammani."

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۖ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝٥٦

[15:56] Ya ce, "Babu mai fid da tsammani a kan rahamar Ubangijinsa, sai batattu."

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝٥٧

[15:57] Ya ce, "To, me ya kawo ku anan, Ya manzanni?"

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝٥٨

[15:58] Suka ce, "An aiko mu ne zuwa ga mutane masu laifi."

إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٥٩

[15:59] "Bisa ga iyalan Ludu, za mu tsirar da su duka."

إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ ۖ قَدَرْنَا ۖ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ۝٦٠

[15:60] "Amma ban da matarsa; an qaddara za ta kasance tare da masu halaka."

فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۝٦١

Ludu

[15:61] To, sa'ad da mazanni suka je zuwa garin Ludu.

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾

[15:62] Ya ce, "Ku mutane ne wanda ba sani ba."

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾

[15:63] Suka ce, "Mun zo maka da abin da suke ta shakka ne."

وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٤﴾

[15:64] "Mun zo maka da gaskiya; kuma mu masu gaskiya ne."

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْنفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ
وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾

[15:65] "Ka kwashi iyalinka a cikin dare. Ka tsaya a bayansu, kuma ka tabbatar babu wani daga cikinku ya dubi baya. Kuma ku bi ta inda aka umurce ku."

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتُولَاءِ مَقْطُوعٌ
مُّصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾

[15:66] Muka sadad da wannan umurni zuwa gare shi da cewa: za halakar da wadannan mutane a cikin lokacin asubahi ne.

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾

[15:67] Mutanen garin suka fito suna murna.

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾

[15:68] Ya ce, "Wadannan baqina ne; saboda haka, kada ku kunyata ni."

وَأَنْقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ ﴿٦٩﴾

[15:69] "Ku ji tsoron **ALLAH**, kuma kada ku kawo mini damuwa."

قَالُوا أَوْلَم نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾

[15:70] Suka ce, "Ashe bamu hana ka daga ganawa d kowa ba?"

قَالَ هَتُوْا لَاءِ بِنَاتِيْ اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ ﴿٧١﴾

[15:71] Ya ce, "Ga `ya`yana mata, idan ya zama maku dole."

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾

[15:72] Amma, ina, jarabarsu ya rufe masu idanunsu.

فَاخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ﴿٧٣﴾

[15:73] A sababin haka ne, bala'i ta bakade su a cikin asubahi.

فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾

[15:74] Muka kifar da ita a birkice, kuma muka saukar masu da duwatsun wuta na barna a kansu.

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ﴿٧٥﴾

[15:75] Wannan darasi ne ga wandanda suke da hankali.

وَ اِنَّهَا لِبِسْبِيلٍ مُّقِيْمٍ ﴿٧٦﴾

[15:76] Kuma ita ce za ta dunga kasancewa hanya.

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٧﴾

[15:77] Wannan aya ce ga masu imani.

وَ اِنْ كَانَ اَصْحَابُ الْاٰيٰتِ لَظٰلِمِيْنَ ﴿٧٨﴾

[15:78] Kuma mutanen Al'aikah su ma masu qetare iyaka ne.

فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾

[15:79] Sai Muka yi azabar ramuwa daga gare su, kuma su biyun, suna daga 'imami' mabayyani.

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾

[15:80] Kuma mutane Al'hijiri sun qaryata manzanni.

وَأَيُّدِنَهُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾

[15:81] Muka basu ayoyinMu, amma sai suka bijire masu.

وَكَانُوا يُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿٨٢﴾

[15:82] Da sukan sasaqa gidaje masu lamini daga tsaunika.

فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾

[15:83] Sai bala'i ta naushe su a cikin asubahi.

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾

[15:84] Abin da suka tsibanta bai amfanesu ba.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ

السَّاعَةَ لَأَيُّهُنَّ فَاصِّحَ الصَّفْحِ الْجَمِيلِ ﴿٨٥﴾

An Bayyana Qarshen Duniya

[15:85] Ba mu hallicci sammai da qasa, da abin da yake tsakaninsu, sai domin wani qayyadadden dalili. Kuma lalle ne, qarshen duniya mai zuwa ce, saboda haka ka yi rangwame, rangwame mai kyau.

*15:85-88 Daya daga cikin ayyukan manzon Allah na Wa'adi shi ne ya sadad da ambaton Alqurani da cewa duniya zata zo qarshe a cikin AD 2280 (20:15, 72:27 da shafi ta 25).

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾

[15:86] Ubangijinka Shi ne Mai yawan halitta, Masani.

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾

[15:87] Mun ba ka biyun bakwai, kuma da Alqurani mai girma.

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

وَأخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

[15:88] Ka da yi kishi a kan abin da muka baiwa wadansu (manzanni), kuma kada ka yi baqin ciki (da kafirai), kuma ka sassauta fikafikanka ga mu'minai.

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾

[15:89] Kuma ka zayyana: "Ni mai gargadi ne bayyananne."

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾

[15:90] Kamar ydda muka saukar a kan masu raba kawuna.

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩١﴾

[15:91] Wadanda suka yarda da kashi na Alqurani ne kawai.

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾

[15:92] Rantsuwa da Ubangijinka, za mu tambaye su duka baki daya,

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

[15:93] game da duk abin da suka aikata.

فَأَصْدَعُ بِمَا تُمُرُّ وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

[15:94] Saboda haka, ka tsaya a kan gaskiya game da abin da aka yi umurni zuwa gare ka, kuma ka rabu da masu shirka.

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾

[15:95] Za mu isar maka daga masu gori

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

[15:96] Wanda suke sanya wani abin bautawa tare da **ALLAH**. Da sannu za su sani.

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾

[15:97] Mun san cewa zaka ji haushi game da abin da suke fada.

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾

[15:98] Saboda haka ka yi tasbihi game da godewa Ubangijinka, kuma ka kasance a cikin masu sujudah.

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

[15:99] Kuma ka bauta wa Ubangijinka, domin ka kai ga matsayin al'yaqin.*

*15:99 Ayyukan ibadarmu su ne hanyar da zai sa mu kai ga matsayin yaqini (shafi ta 15).